

109246- طواف کے دوران کیا کہے؟

سوال

یہ کچھ اذکار ہیں جو کسی نے جمع کیے ہیں، ان کا ارادہ تھا کہ اسے عمرہ کرنے والوں میں تقسیم کریں، لیکن پہلے انہوں نے آپ سے رجوع کیا ہے تاکہ صحیح اور ضعیف کا پتہ لگ سکے، ان میں سے کچھ اذکار عمرہ کرنے والوں کے لیے ہیں کہ طواف کے دوران کون سے اذکار پڑھنے ہیں، پہلے چکر میں الحمد للہ اور اللہ تعالیٰ کی تعریف پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور پھر دعائیں ذکر کی گئی ہیں، ساتھ ہی دین و دنیا کے لیے مفید دعائیں بھی یک جا جمع کر دی گئی ہیں، ان دعاؤں کے ساتھ حاضر قلبی کے ساتھ پڑھنے کی تلقین بھی ہے۔

پسندیدہ جواب

ہمارے علم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے اذکار یا دعائیں وارد نہیں ہیں جو طواف کے دوران پڑھی جائیں، ماسوائے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان؛ کہ: ﴿رَبَّنَا آجِبْنِي﴾
اللّٰهُ يَا حَسْبُكَ، وَفِي الْأَجْرَةِ حَسْبُكَ، وَقَدْ عَذَابَ النَّارِ﴾۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔
مسند احمد: (3/411) اس روایت کو ابن جان: (9/134) اور حاکم: (1/625) نے صحیح قرار دیا ہے۔
ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر حجر کے اسود کے برابر آنے پر تکبیر بھی ثابت ہے۔ جیسے کہ بخاری: (4987) میں موجود ہے۔
جبکہ طواف کے بقیہ حصوں میں طواف کرنے والے کو اختیار حاصل ہے کہ ذکر، دعا، اور قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہے۔

جیسے کہ ابن قدامہ رحمہ اللہ "المعنى" (3/187) میں لکھتے ہیں:

"دوران طواف کثرت سے دعا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا مستحب ہے؛ کیونکہ یہ چیزیں ہر حالت میں مستحب ہیں، لہذا کسی عبادت کے دوران تو بالاولیٰ مستحب ہوں گی، نیز باتیں ترک کر کے ذکر الہی، تلاوت قرآن، نیکی کا حکم دینا، یا غلطی سے روکنا یا کوئی ایسا کام کرنا جسے کیے بغیر کوئی چارہ نہ ہو؛ انہیں کرنا مستحب ہے۔" ختم شد

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"طواف کرتے ہوئے کوئی معین ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مقرر نہیں ہے، نہ تو آپ نے کسی مخصوص ذکر کا حکم دیا ہے نہ ہی آپ کے قول سے ثابت ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ سکھایا ہے۔ چنانچہ طواف کے دوران تمام شرعی دعائیں مانگے۔ بہت سے لوگ میزاب وغیرہ کے نیچے مخصوص دعا کا ذکر کرتے ہیں یہ بے بنیاد بات ہے۔ تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طواف کے چکر کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ﴿رَبَّنَا آجِبْنِي اللَّهُ يَا حَسْبُكَ، وَفِي الْأَجْرَةِ حَسْبُكَ، وَقَدْ عَذَابَ النَّارِ﴾۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ کہہ کر مکمل کیا کرتے تھے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اپنی دعاؤں کے آخر میں اسی دعا کو پڑھتے تھے۔ لہذا طواف کے دوران کوئی مخصوص واجب ذکر نہیں ہے، اس پر ائمہ کرام کا اتفاق ہے۔" ختم شد

"مجموع الفتاویٰ" (26/122)

الشیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ جب بھی حجر اسود کے پاس آتے تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کہا کرتے تھے: ﴿رَبَّنَا آجِبْنِي اللَّهُ يَا حَسْبُكَ، وَفِي الْأَجْرَةِ حَسْبُكَ، وَقَدْ عَذَابَ النَّارِ﴾۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ [البقرة: 201]

تاہم طواف کے کسی بھی چکر کے لیے کوئی مخصوص دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس بنا پر طواف کرنے والا شخص دوران طواف دنیا و آخرت کی بھلائیاں سمیٹے، اللہ تعالیٰ کا کسی بھی شرعی ذکر کے ذریعے ذکر کرے، سبحان اللہ کے، الحمد للہ کے، لا الہ الا اللہ کے، یا اللہ اکبر کے، یا قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ "ختم شد"

"مجموع الفتاویٰ" (24/327)

واللہ اعلم